

# **AL-Khair Gadoon Ltd.**

Ref: Al-Khair/Shares/2-5/1880/2020

October 06, 2020

The General Manager Pakistan Stock Exchange Ltd. Karachi.

#### **NEWSPAPER-AGM**

Dear Sir,

We are pleased to enclose herewith copies of Newspaper Cuttings "Notice of Annual General Meeting" published on October 02, 2020 for your record and information.

Thanking you.

Yours faithfully,

For Al-Khair Gadoon Limited

MOHAMMED AMIN SHEIKH

Company Secretary

Encl.:- As above

Note: Also posted at "PUCARS".

perform; companies cite higher fuel costs and tightening trance costs as a share healthier balance sheets come FY2

### rround the corner

lown to only 3.5 bcfd. Gas an additional gas pipeline. production is declining at a ate of 9.5 percent annually, ind the notorious circular villion.

This oggerheads as the latter is iot ready to consume LNG he weighted average gas ricing proposal by the fedther hand, the federal govorm of RLNG to Sindh if it months.

igus production has come issues the right of way for

The government is also planning to build underground gas storage to avert a gas lebt has also engulfed the shortage in the future. For this, as sector, touching Rs250 the Asian Development Bank has agreed to complete a study means that to on the methodology of underncrease the supply side, a ground gas storages till May ot of reliance will be on 2021. But some measures are mported RLNG. Here too required immediately. Apart he federal government from the consensus between lindh government are at provinces and the federation needed to address gas shortfall issues, what is needed instantnd hence does not agree on ly is 100 percent utilization of the two RLNG terminals, and increased LPG production and ral government as it will lowering its cost for those ncrease the price. On the without piped gas (28 percent of gas consumers) as well as rnment has proposed an those with piped gas but facdditional 150 mmcfd in ing a shortage in winter

to extensive research after diligent and reasonable eff orts to deterof or discredit to any person, scrip or tradable instrument. The conndation to trade. No relationship of client will be created between ust be taken by the reader before making investment/trading deciaccrued on basis of this analysis. The content(s) including all prior notice and/or intimation.

# Gwadar may bring y: Iranian envoy

vas the closure of transportation ind transit between two counries. "While the problem has een resolved, I hope with cooperation and participation by he two countries, routine busiiess at borders will resume and ve will witness re-growth in rade cooperation," he added.

or the investment between the wo countries, such as energy, as, electricity and oil, adding, hat Iran had a very good potenial in the energy sector. "We an have a significant amount of xports in these areas to 'akistan," he added.

About the Iran-Pakistan gas ipeline project, the Iranian nvoy said the IP gas pipelines roject was signed between Iran nd Pakistan in 2009, adding hat Iran had undertaken its part of work despite illegal US sancions and other economic presure and constraints. "We are ooking forward towards he added.

he border between the two Pakistan to fulfill the commitcountries was closed and there ment in this regard. If we can execute this investment project, there are a lot of other fields in which we can have growth in the areas," he added.

At the moment, he said Iran was exporting a small amount of electricity to Pakistan, adding that his country had already announced its readiness to He identified various fields export more electricity to Pakistan.

> In other fields such as tourism, health and pilgrim tourism, he said that the two sides could have the investment to boost and increase the number of the traveling passengers to both the countries.

'The future of Pakistan-Iran bilateral relations is very bright as the motive and resolve of the leadership along with the interest of people of these countries is that they should boost their relationship in various fields despite the enemies and il wishers of the two countrie

### NOTICE OF MEETING

Notice is hereby given that the 30th Annual General Meeting of Al-Khair Gadoon Ltd., will be held on Monday the October 26, 2020 at 9:00 A.M. at the Registered Office of the Company at 92/3, Phase III, Industrial Estate, Gadoon Amazai, District Swabi, Khyber Pakhtunkhwa., to transact the following business:-

- 1. To confirm the minutes of the 29th Annual General Meeting held on October 25, 2019.
- To receive, consider and adopt the Audited Accounts of the Company for the year ended June 30, 2020, together with the Directors' and Auditors' Reports thereon.
- To appoint Auditors of the Company and fix their remuneration.
- To transact any other business with the permission of the Chairman.

BY ORDER OF THE BOARD (MOHAMMAD AMIN SHEIKH)

Dated: October 02, 2020 NOTES:

Share Transfer Books of the Company will remain closed from October 19, 2020 to October 26, 2020 (both days inclusive). Transfers received in order upto the close of business on October 17, 2020 at the Corporate Office of the Company at Al-Khair House, 43-T, Gulberg II, Lahore will be entitled to voting rights at the Annual General Meeting.

Due to current COVID-19 situation, the Government has suspended large public gatherings at one place. Additionally, the Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP") in terms of its Circular No. 5 of 2020 issued on March 17, 2020 and Pakistan Stock Exchange Limited ("PSX") through its notice Ref: PSX/N-372 dated March 19, 2020 has advised companies to modify their usual planning for general meetings for the safety and well-being of shareholders and the public at large. Considering the SECP's directives, the Company intends to convene this AGM with minimal physical interaction of shareholders while ensuring compliance with the quorum requirements and requests the members to consolidate their attendance and voting at the AGM through proxies.

Accordingly, the Company has made arrangement to ensure that all participants, including shareholders, can now participate in the AGM proceedings via video link. Those members who are willing to attend and participate in the AGM are requested to register themselves by providing their Names, Folio Number, Number of Shares, Cell Number, email address, and valid copy of both sides of Computerized National Identity Card (CNIC) at "corporate@alkhairgoup.com" with subject of Registration for AGM as


Members who will be registered, after necessary verification as per the above requirements, will be provided a password protected video link by the Company via email. The said link will remain open from 9:00 a.m on the date of AGM till the end of the meeting.

Shareholders can also provide their comments and questions for the agenda items of the AGM at the email address "corporate@alkhairgoup.com".

Members are therefore, encouraged to attend the AGM through video link or by consolidating their attendance through proxies.

- A member of the Company entitled to attend and vote at the meeting may appoint another member as his/her proxy to attend and vote. Votes may be given personally or by proxy or by Attorney or in case of a Corporation by representative. The instrument of proxy duly executed should be lodged at the Corporate Office of the company at Al-Khair House, 43 - T, Gulberg II, Lahore not later than 48 hours before the time of meeting.
- Any individual Beneficial Owner of the Central Depository Company (CDC), entitled to vote at this meeting must bring his / her Computerized National Identity Card (CNIC) or passport (in case of foreigner) along with CDC account number to prove his / her identity and in case of proxy must enclose an attested copy of his / her CNIC or passport. Representatives of corporate members should bring the usual documents required for such purpose.
- Members are requested to immediately inform the Company's Share Registrar of any change in their mailing address.
- Members are requested to provide by mail, photocopy of their CNIC or passport (in case of foreigner), unless it has been provided earlier, enabling the Company to comply with relevant laws.
- SECP through its SRO 470(1)/2016, dated 31 May 2016, had allowed companies to circulate Annual Audited Accounts to its members through CD/DVD/USB at their registered addresses. In view of this, the Company is being sent its 2020 annual report to its shareholders in form of CD. Any member requiring printed copy of 2020 annual report may send a request with identification details, the Company will send the hard copy of printed accounts 2020 free of cost within one week.
- In accordance with Section 132 (2) of the Companies Act, 2017 if the Company receives consent from members holding in aggregate 10% or more shareholding residing in a geographical location to participate in the meeting through video conference at least 7 days prior to the date of Annual General Meeting, the Company will arrange video conference facility in that place subject to availability of such facility in that place. To avail this facility a request is to be submitted to the Company Secretary of the Company on given address:

The Company Secretary, Al-Khair Gadoon Ltd, 43-T, Gulberg II, Lahore.



200 percent against double-digit margins last shielded cement firms from grossports to that year which were themselves much losses. Expansion based financing demand, lower interest rates and exports fell lower from the year prior. Price-cost also came under the as interest rates coal prices keeping at their current expressure on dynamics wreak havoc. Though the were high due to monetary policy levels will all contribute towards to perform; companies cite higher fuel costs and tightening. Finance costs as a share healthier balance sheets come FY2.

## around the corner

down to only 3.5 bcfd. Gas an additional gas pipeline. production is declining at a rate of 9.5 percent annually, and the notorious circular debt has also engulfed the gas sector, touching Rs250 billion.

increase the supply side, a lot of reliance will be on imported RLNG. Here too Sindh government are at loggerheads as the latter is not ready to consume LNG and hence does not agree on the weighted average gas pricing proposal by the federal government as it will increase the price. On the other hand, the federal government has proposed an form of RLNG to Sindh if it months.

nous production has come issues the right of way for

The government is also planning to build underground gas storage to avert a gas shortage in the future. For this, the Asian Development Bank has agreed to complete a study means that to on the methodology of underground gas storages till May 2021. But some measures are required immediately. Apart the federal government from the consensus between provinces and the federation needed to address gas shortfall issues, what is needed instantly is 100 percent utilization of the two RLNG terminals, and increased LPG production and lowering its cost for those without piped gas (28 percent of gas consumers) as well as those with piped gas but facadditional 150 mmcfd in ing a shortage in winter

ected to extensive research after diligent and reasonable eff orts to deterrefit of or discredit to any person, scrip or tradable instrument. The con nmendation to trade. No relationship of client will be created between ice must be taken by the reader before making investment/trading decibility accrued on basis of this analysis. The content(s) including all out prior notice and/or intimation.

# Gwadar may bring ity: Iranian envoy

of the border between the two Pakistan to fulfill the commitand transit between two countries. "While the problem has been resolved, I hope with the areas," he added. cooperation and participation by of the two countries, routine business at borders will resume and we will witness re-growth in trade cooperation," he added.

He identified various fields for the investment between the Pakistan. two countries, such as energy, gas, electricity and oil, adding, that Iran had a very good potential in the energy sector. "We can have a significant amount of exports in these areas to Pakistari," he added.

About the Iran-Pakistan gas pipeline project, the Iranian bilateral relations is very bright envoy said the IP gas pipelines project was signed between Iran and Pakistan in 2009, adding est of people of these countries that Iran had undertaken its part is that they should boost their of work despite illegal US sanc-relationship in various fields tions and other economic pres- despite the enemies and illsure and constraints. "We are wishers of the two countries looking forward towards he added.

countries was closed and there ment in this regard. If we can was the closure of transportation execute this investment project, there are a lot of other fields in which we can have growth in

At the moment, he said Iran was exporting a small amount of electricity to Pakistan, adding that his country had already announced its readiness to export more electricity to

In other fields such as tourism, health and pilgrim tourism, he said that the two sides could have the investment to boost and increase the number of the traveling passengers to both the countries

"The future of Pakistan-Iran as the motive and resolve of the leadership along with the inter-

### NOTICE OF MEETING

Notice is hereby given that the 30th Annual General Meeting of Al-Khair Gadoon Ltd., wil be held on Monday the October 26, 2020 at 9:00 A.M. at the Registered Office of the Company at 92/3. Phase III, Industrial Estate, Gadoon Amazai, District Swabi, Khyber Pakhtunkhwa., to transact the following business:-

- 1. To confirm the minutes of the 29th Annual General Meeting held on October 25, 2019.
- To receive, consider and adopt the Audited Accounts of the Company for the year ended June 30, 2020, together with the Directors' and Auditors' Reports thereon.
- To appoint Auditors of the Company and fix their remuneration.
- To transact any other business with the permission of the Chairman.

BY ORDER OF THE BOARD **Company Secretary** 

Dated: October 02, 2020

- . Share Transfer Books of the Company will remain closed from October 19, 2020 to October 26, 2020 (both days inclusive). Transfers received in order upto the close of business on October 17, 2020 at the Corporate Office of the Company at Al-Khair House, 43-T, Gulberg II, Lahore will be entitled to voting rights at the Annual General Meeting.
- Due to current COVID-19 situation, the Government has suspended large public gatherings at one place. Additionally, the Securities and Exchange Commission of Pakistan ("SECP") in terms of its Circular No. 5 of 2020 issued on March 17, 2020 and Pakistan Stock Exchange Limited ("PSX") through its notice Ref: PSX/N-372 dated March 19, 2020 has advised companies to modify their usual planning for general meetings for the safety and well-being of shareholders and the public at large Considering the SECP's directives, the Company Intends to convene this AGM with minimal physical interaction of shareholders while ensuring compliance with the quorum requirements and requests the members to consolidate their attendance and voting at the AGM through proxies.

Accordingly, the Company has made arrangement to ensure that all participants, including shareholders, can now participate in the AGM proceedings via video link; Those members who are willing to attend and participate in the AGM are requested to register themselves by providing their Names, Folio Number, Number of Shares, Cell Number, email address, and valid copy of both sides of Computerized National Identity Card (CNIC) at "corporate@alkhairgoup.com" with subject of Registration for AGM as

Members who will be registered, after necessary verification as per the above requirements, will be provided a password protected video link by the Company via email. The said link will remain open from 9:00 a.m on the date of AGM till the end of

Shareholders can also provide their comments and questions for the agenda items of the AGM at the email address "corporate@alkhairgoup.com".

Members are therefore, encouraged to attend the AGM through video link or by consolidating their attendance through proxies.

- A member of the Company entitled to attend and vote at the meeting may appoint another member as his/her proxy to attend and vote. Votes may be given personally or by proxy or by Attorney or in case of a Corporation by representative. The instrument of proxy duly executed should be lodged at the Corporate Office of the company at Al-Khair House, 43 - T, Gulberg II, Lahore not later than 48 hours before the time of meeting.
- Any individual Beneficial Owner of the Central Depository Company (CDC), entitled to vote at this meeting must bring his / her Computerized National Identity Card (CNIC) or passport (in case of foreigner) along with CDC account number to prove his / her identity and in case of proxy must enclose an attested copy of his / her CNIC or passport. Representatives of corporate members should bring the usual documents required for such purpose.
- Members are requested to immediately inform the Company's Share Registrar of any change in their mailing address.
- Members are requested to provide by mail, photocopy of their CNIC or passport (in case of foreigner), unless it has been provided earlier, enabling the Company to comply with
- SECP through its SRO 470(1)/2016, dated 31 May 2016, had allowed companies to circulate Annual Audited Accounts to its members through CD/DVD/USB at their registered addresses. In view of this, the Company is being sent its 2020 annual report to its shareholders in form of CO. Any member requiring printed copy of 2020 annual report may send a request with identification details, the Company will send the hard copy of printed accounts 2020 free of cost within one week.
- In accordance with Section 132 (2) of the Companies Act, 2017 if the Company receives consent from members holding in aggregate 10% or more shareholding residing in a geographical location to participate in the meeting through video conference at least 7 days prior to the date of Annual General Meeting, the Company will arrange video conference facility in that place subject to availability of such facility in that place. To avail this facility a request is to be submitted to the Company Secretary of the Company

The Company Secretary, Al-Khair Gadoon Ltd, 43-T, Gulberg II, Lahore

Business Recorder (LAR) 02-10-20

oo percent against double-digit margins last shielded ce rts to that year which were themselves much losses. Expansion based financing demand, lower interest rates and xports fell lower from the year prior. Price-cost also came under fig ressure on dynamics wreak havoc. Though the were high due perform; companies cite higher fuel costs and tightening

Helit IIIIIIS Holli grossmonetary policy

as interest rates coal prices keeping at their current levels will all contribute towards nce costs as a share healthier balance sheets come FY

## around the corner

down to only 3.5 bcfd. Gas an additional gas pipeline. production is declining at a rate of 9.5 percent annually, debt has also engulfed the gas sector, touching Rs250 billion.

increase the supply side, a lot of reliance will be on imported RLNG. Here too the federal government Sindh government are at loggerheads as the latter is not ready to consume LNG and hence does not agree on the weighted average gas pricing proposal by the federal government as it will increase the price. On the other hand, the federal govform of RLNG to Sindh if it months.

nous production has come issues the right of way for

The government is also planning to build underground and the notorious circular gas storage to avert a gas shortage in the future. For this, the Asian Development Bank has agreed to complete a study This means that to on the methodology of underground gas storages till May 2021. But some measures are required immediately. Apart from the consensus between provinces and the federation needed to address gas shortfall issues, what is needed instantly is 100 percent utilization of the two RLNG terminals, and increased LPG production and lowering its cost for those without piped gas (28 percent of gas consumers) as well as ernment has proposed an those with piped gas but facadditional 150 mmcfd in ing a shortage in winter

ed to extensive research after diligent and reasonable eff orts to deter it of or discredit to any person, scrip or tradable instrument. The connendation to trade. No relationship of client will be created between must be taken by the reader before making investment/trading deciity accrued on basis of this analysis. The content(s) including all at prior notice and/or intimation.

# Gwadar may bring ty: Iranian envoy

was the closure of transportation and transit between two countries. "While the problem has been resolved, I hope with cooperation and participation by the two countries, routine business at borders will resume and we will witness re-growth in trade cooperation," he added.

He identified various fields for the investment between the two countries, such as energy, gas, electricity and oil, adding, that Iran had a very good potential in the energy sector. "We can have a significant amount of exports in these areas to Pakistan," he added.

About the Iran-Pakistan gas envoy said the IP gas pipelines project was signed between Iran and Pakistan in 2009, adding est of people of these countries that Iran had undertaken its part of work despite illegal US sanctions and other economic pressure and constraints. "We are wishers of the two countries looking forward towards he added.

the border between the two Pakistan to fulfill the commitcountries was closed and there ment in this regard. If we can execute this investment project, there are a lot of other fields in which we can have growth in the areas," he added.

At the moment, he said Iran was exporting a small amount of electricity to Pakistan, adding that his country had already announced its readiness to export more electricity to Pakistan.

In other fields such as tourism, health and pilgrim tourism, he said that the two sides could have the investment to boost and increase the number of the traveling passengers to both the countries.

"The future of Pakistan-Iran pipeline project, the Iranian bilateral relations is very bright as the motive and resolve of the leadership along with the interis that they should boost their relationship in various fields despite the enemies and il-

### NOTICE OF MEETING

Notice is hereby given that the 30th Annual General Meeting of Al-Khair Gadoon Ltd., wi be held on Monday the October 26, 2020 at 9:00 A.M. at the Registered Office of the Company at 92/3, Phase III, Industrial Estate, Gadoon Amazai, District Swabi, Khyber Pakhtunkhwa., to transact the following business:-

- 1. To confirm the minutes of the 29th Annual General Meeting held on October 25, 201
- To receive, consider and adopt the Audited Accounts of the Company for the year ended June 30, 2020, together with the Directors' and Auditors' Reports thereon.
- 3. To appoint Auditors of the Company and fix their remuneration.
- To transact any other business with the permission of the Chairman

BY ORDER OF THE BOARD **Company Secretary** 

Dated: October 02, 2020 NOTES:

1. Share Transfer Books of the Company will remain closed from October 19, 2020 October 26, 2020 (both days inclusive). Transfers received in order upto the closes business on October 17, 2020 at the Corporate Office of the Company at Al-Khair How 43-T, Gulberg II, Lahore will be entitled to voting rights at the Annual General Meetic

Due to current COVID-19 situation, the Government has suspended large put gatherings at one place. Additionally, the Securities and Exchange Commission Pakistan ("SECP") in terms of its Circular No. 5 of 2020 issued on March 17, 2020 Pakistan Stock Exchange Limited ("PSX") through its notice Ref: PSX/N-372 dat March 19, 2020 has advised companies to modify their usual planning for gene meetings for the safety and well-being of shareholders and the public at large Considering the SECP's directives, the Company intends to convene this AGM with minimal physical interaction of shareholders while ensuring compliance with the quorum requirements and requests the members to consolidate their attendance and voting at the AGM through proxies.

Accordingly, the Company has made arrangement to ensure that all participant including shareholders, can now participate in the AGM proceedings via video line Those members who are willing to attend and participate in the AGM are requested register themselves by providing their Names, Folio Number, Number of Shares, Cell Number, email address, and valid copy of both sides of Computerized National Ident Card (CNIC) at "corporate@alkhairgoup.com" with subject of Registration for AGM

Members who will be registered, after necessary verification as per the about requirements, will be provided a password protected video link by the Company email. The said link will remain open from 9:00 a.m on the date of AGM till the end the meeting.

Shareholders can also provide their comments and questions for the agenda items the AGM at the email address "corporate@alkhairgoup.com".

Members are therefore, encouraged to attend the AGM through video link or consolidating their attendance through proxies.

A member of the Company entitled to attend and vote at the meeting may appoint anoth member as his/her proxy to attend and vote. Votes may be given personally or by proxy or w Attorney or in case of a Corporation by representative. The instrument of proxy duly executed should be lodged at the Corporate Office of the company at Al-Khair House, 43 - T, Gulberg II, Lahore not later than 48 hours before the time of meeting.

Any individual Beneficial Owner of the Central Depository Company (CDC), entitled to vote this meeting must bring his / her Computerized National Identity Card (CNIC) or passport in case of foreigner) along with CDC account number to prove his / her identity and in case of proxy must enclose an attested copy of his / her CNIC or passport. Representatives of corporate members should bring the usual documents required for such purpose.

Members are requested to immediately inform the Company's Share Registrar of any change in their mailing address.

Members are requested to provide by mail, photocopy of their CNIC or passport (in case of foreigner), unless it has been provided earlier, enabling the Company to comply with

SECP through its SRO 470(1)/2016, dated 31 May 2016, had allowed companies to circulate Annual Audited Accounts to its members through CD/DVD/USB at their registered addresses. In view of this, the Company is being sent its 2020 annual reposit to its shareholders in form of CD. Any member requiring printed copy of 2020 annual report may send a request with identification details, the Company will send the hard copy of printed accounts 2020 free of cost within one week.

In accordance with Section 132 (2) of the Companies Act, 2017 if the Company received consent from members holding in aggregate 10% or more shareholding residing in geographical location to participate in the meeting through video conference at least 7 days prior to the date of Annual General Meeting, the Company will arrange video conference facility in that place subject to availability of such facility in that place to avail this facility a request is to be submitted to the Company Secretary of the Company

he Company Secretary, Al-Khair Gadoon Ltd, 43-T, Gulberg II, Lahore

09-10-20 Business Recorder (2 Sb)

اطلاع برائے سالا نہاجلاس عام 4- مالى سال 2-2020 كے لئے آؤیٹرز كاتقر راوران كے مشاہر وكاتعين كرنا۔ بذراجه بذا مطلع كما حاتات كما الخير كدون لميلذ كي صفى داران كا 30 دال سالاندا جلاس عام مردند 26 ميسرزني في اوابراييم ايندُ كو، حارثر دُاكا وننشس ريئارٌ موسكة بين اورابل موت كي بناه يردوبار وتقرري ع اكتوبر،2020 بروزيير بونت مع 9:00 يج بمقام رجستر ذونتر 3/92 فير 3 ، انذسر بل اسليك ، كدون 15 Ecolo 10 - 10-ا ماز کی ضلع صوالی جیر پختونو او میں درج ذیل امور کے انجام دیں کے لیے منعقد ہوگا۔ 1. 25/كور، 2019 كومتعقده 29وس الانداجلان عام كى كاروائى كى توشق كرنا-5- چيئرين كااجازت يكوكى ديكرامور 2. 30 بون، 2020 كوشم شده سال ك لي مين ك يرتال شده سالانه مالياتي كوشوار يشول وَارْ يَكْرُورْ اورآ د يرزى راورش كى وصولى غور وخوش اورمنظورى وينا-18 تر2020ء 3. محاسب كانقر راوران كمشايره كالعين كرنا\_ بحكم بورڈ 4. جناب چيز مين كي اجازت كى ديكرام يركاروائي-عبدالمصورخان کمینس سیکر اثری 2020 7 102: 3/1 كميني كي قصص منتقلي كما بين 20 أكتوبر 2020 و تا 26 أكتوبر 2020 و (بشمول بردوايام) بندريس كي \_ متقليان ماري شير رجر ارزميسر زميد مجيدا يوي ايس (برائيويك) لميند التجاميم ايس ميل منول ، 7 1: كميني كا حصص منتقلي كى تما بين 19 كتوبر 2020 سے 26 كتوبر، 2020 (بشمول دونوں دن) بندر بين بيك اسكوائر ورى مال المورك بال19 أكور 2020 وكاروبارك اختتام يرموصول وفي والسالاند گی۔ تمام ٹرانسفرز جو تواعد وضوابط کے مطابق تمینی کے کارپوریٹ وفتر اکٹیرہاؤس، 43- ٹی گلبرگ 2، لا ہور میں 17 اکتوبر، 2020 تک وصول ہوگئی۔وہ سالانہ اجلاس عام میں ووٹ کے اہل تصور ہوں گے۔ اجلاس عام میں شرکت اورووٹ دینے کے ق کے تعین اور نقد منافع کے حصول کیلئے بروقت تصور ہوگی۔ COVID-19 کی موجود و صورتحال کے تحت ، حکومت نے ایک مقام برعوا می اجماعات کو معطل کردیا ہے۔ اجلال بداش شركت اورووف دين كاستحق كبني كالمبرا بي بجائة الركت اورووف دين كيلنة ويكرمبركوا بنا مزید برآن سیکیور شیز ایند المیمینی میشن آف یاکتان نے 2020 کے سر کار نبر 5 جاری کردہ 17 ماری یرا کسی مقرر کرسکتاہے۔ براکسی تا آ نکہ تو ٹر ہوکیل ، با قاعدہ دستخط اور مہرشدہ اجلاس کے وقت سے کم از کم 48 2020اور پاکستان سٹاک ایمین کمینٹر کے نوٹس ریفرینس نمبر PSX/N-372 بتاریخ 19 اربی محفظ الميني كرجشرة وفتريرلاز مأوصول بوجاني حاجيس 2020 میں کمیٹیوں کومشورہ ویا ہے کہ وہ اسے تصف داران اورعوام کی حفاظت اور فلاح دبہور کیلیے بڑے ی ڈی ک اکاؤنٹ بولڈرز اسب اکاؤنٹ بولڈ بازے درخواست ہے کہ سالا شاجلاس عام بیل شرکت کے پیانے پر عام اجلاسوں کیلئے اپنی معمول کی منصوبہ بندی میں رووبدل کریں۔ وتت برشافت كم مقعد كيلغ اسينا اصل كميور الروتوى شاختى كارؤ زيابا سيورث معداسينا بارفيسين كاآكى سکیور شیزاینڈا بھیجنچ کمیشن آف یا کستان کی ہوایت پرغور کرتے ہوئے کمپنی اپنے کودم کی ضروریات کی تھیل دى غېرزاورى دى كاكاد تى غېرلاز ما مراولا كىل ـ کونٹین بناتے ہوئے مصصد اران کے کم ہے کم جسانی تعامل کے ساتھ سالاندا جلاس عام کوطلب کرنے کا iv مهورت كار يوريث اداره بورد آف دائر يكثرزك قرارداد اعارنامد معنام دو كنوند و عظوا اكريم مياند ارادہ رکھتی ہاور اراکین سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنی حاضری کو بھی بناتے ہوئے پر اکسیو کے ك يح مون ) اجلاس كودت يرمها كرن مو عكى نامزده كوشاخت كم مقصد كے اجلاس ميں ذريع اجلال بين شركت كرير \_ شرکت کے وقت اینااصل CNIC مبیا کرے گا۔ مزید بیر کہ کمپنی نے ایسا بھین بنانے کے لیے اقطابات کے ہیں کہ حصصد اران سمیت تمام شرکا اب ٧- ممبران حدد خواست ب كدايي يية مين تبديل اگركوكي مور ميني كشيئر رجشرار كوني الفور مطلع فرمائيس-ویڈیولنگ کے ذریعے سالا خداجلاس عام کی کاروائی میں حصہ لے سکتے ہیں۔وہ تمام اراکین جوسالا خداجلاس ٧١- كمينيزا يك 2017 كى وفعد 242 كى يكثن كتحت ، افتدر من من اواكي جان والي كمي من فع كوفتلا عام میں شرکت کرنا جا ہے ہیں، ان سے التماس بے کہ اپنا نام، فولیونمبر، تعداد حصص، مو ہاکل نمبر، ای میل ایڈریس اورا اگوکیوٹرائز ڈقوی شاقتی کارڈی اُقل (دونوں جانب سے کا لی) کے ساتھ ابتوان" دہسٹریش برقى طريقة كذر يع حقد ارتصعى يافتكان كي متعين كرده بينك اكاؤنث مي اداكيا عائ كالبذاخص یافتگان کو مدایت کی جاتی ہے کہ ڈیو ٹیٹر میٹریٹ قارم ( کمپنی کی ویب سائٹ پر دستیاٹ مونہ) فراہم کر کے برائے سالاندا جلاس مام" کے corporate@alkhairgroup.com پربذر بیدای میل درج اى ۋويدْ فلك عن شرو ويدْ فلميند بدفراجم كريى ين وى كاشير بولدرزى صورت مين ، براوكرم اسيخى ڈی ی کے یارٹیسوٹ کے ہاں ریکار ڈکواپ ڈیٹ کریں۔ مندرجہ بالامعلومات مہیا کرئے کے بعدرجسٹریشن کروانے والے اراکین کی ضروری تفیدیق کے بعد انہیں vii کھی آرڈیٹن 2001 میں حکومت یا کستان نے کچیز ایم کی بین جس کے قوت کمپنیوں کے در پیدادا کے جانے والے منافع کی رقم پر ود وولڈنگ کی میں کو تی کے لئے قاف شرطین تھیں کی تی بین سے لیس کی شرطی مینیٰ کی جانب سے بذر بعیای میل، یا سورڈ سے محفوظ کردہ دیڈ بو لنگ مہا کیا جائے گا۔ وہ لنگ سالانہ اجلاس عام والے ون صح 9:00 بج سے اجلاس کے اختام تک وستیاب رہے گا۔ تصف داران سالانداجلاس عام كيا يجتدا أتحمر ف متعلق الي سوالات اورتجر برايداي ميل (ا) الكميكس يرزك فاعكر كے لئے 15 فيصداور (b) الكميكس دينرزك نان فاكر كے لئے 30 فيصد بيں۔ ممرول کوہدایت کی جاتی ہے کدوہ کی تکلیف سے جینے کے لئے اپنی حیثیت کواس کے مطابق اپ ڈیٹ کریں۔ corporate@alkhairgroup.com پرارمال کر کتے ہیں۔ اراكين كوزغيب دى جاتى بے كدوه ويڈيولنك يا يراكسير كے ذريع اپنى حاضي ينى كوبناتے ہوئے سالاند viii كينيزا كيك، 2017 كي وفعد 244 كي كيشن كيمطانق، جيال كي كيني كي طرف سے ديوية شكا علان كيا اجلاس عام میں شرکت کریں۔ گیا ہے لین اس کی اوائیلی کے حقد ارکسی بھی تھے وار توکیشن 242 کے تحت مقررہ مدے کے اندرا دائیگی ا سالا نداجلاں عام میں شرکت کرنے اور ووٹ دینے کا اہل ایک رکن اپنی جگہ دوس ہے کسی رکن کو لطور دعوی میں کیا گیا ہے۔ مینی مذکور دمت کی میعاد مع ہونے کی تاریخ سے بعدر دون کے اندر، اس منافع کی کل برانسی اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ وینے کے لیے مقرر کرسکتا /کرسکتی ہے۔ووٹ ذاتی طور مرم رقم جوغیراداشدہ یا غیرووی شدہ رہتی ہاس مقصد کے لئے میٹی کی بھی شیرول بینک میں کھولے سے غیرادا بذريعه يراكى، بذريدانارنى يادار يك صورت من نمائده دي جاسكة بين يراكى يموره مون شدود يويدشاكا وتف يس جع كرادى جالي فيرادا شدود يويد غاكا وتديي بن جع قم كورويداركوادا ميكي لیلیے ضروری ہے کہ دہ کیمنی کے کارپوریٹ آفس، الخیر ہاؤس، 43- ٹی گلبرگ2، لاہور ٹس اجلاس کے ك لئے استعال كيا جائے گا كينى منافع كا ادائيكى كى صورت ليس فدكور وسيكش كى ديكر شقوں كالعيل كويتينى وت سے كم سے كم 48 كھنے إلى وصول بوجا كيں۔ بنانے کے ساتھ ساتھ ندکورہ بالاقیل کو بھی علیٰ بنائے گا۔ 4. مینفرل دیازش مین (CDC) کاکی شیرز دولدرزجو اجلاس بذایس شرکت کرنے اور ووث دیے xi- ممبران کی جغرافیا کی تقلیم یا پھیلا و کوکو مد نظر رکھتے ہوئے جہاں ویڈیو کا نفرنس کی مہولت مہیاہے متنفید ہو ك حقدارين وه شاخت كے طوريرا بناكميورائز و توى شاخى كار ديا ياسپورث (اگر غير مكى بوتو)اور عظة بين-بابت بدايس فارم رُكر كاور سالانداجلاس عام كاريخ عد 10 يوق كم مينى كرد در ويدي مح GDC كا وَنِث بمبر ضرور ساته ولا كي \_ يراكسي كي صورت من كمبيور از وقوى شاختي كار في يا ياسيورث كي كراسي ووليكا فراس بوات صرف ال صورت مبهاكي جائے كى \_اكر كميني كواجلاس كى تاريخ \_ كم از كم 10 يوم قبل ود يوكا فرنس كي ذريع اجلاس شركت كيليد جغرافيا في محل وقوع بين سكون مجوى 10 يازياده شیر ،ولدگ کے مالک ممبران سے رضامندی وصول ہوئی۔ مینی اجلاس عام کی تاریخ سے کم از کم 5 ہم الل ويريحا تفراس بوات كمقام مدانين الياسوات تكرساني حقابل بنان كيليضروري عمل معلومات بحثيت ركن اتحاد كيم يكز لميشرما لك .....عام صعى بمطابق رجىژۇليۇنبراي ۋى يا كاۋنى نېرايارنىيەن آ كىۋى نېر...

لمداق شدہ کالی شکک کرنا لازی ہے ذکورہ مقصد کے لیے کارپوریٹ ممبر کے نمائندے اپنے ساتھ بطلوبيدستاو يزضرور لائمين-المبرزے درخواست ہے کہ وہ اپنے بے بیس کی بھی تسم کی تبدیلی کی صورت بیس میپنی کے شیئرز رجسٹرار کو

فسب الحكم بورد

محرامين كمين سيرزي

وری اطلاع دیں۔ میرز سے درخواست ہے کہ وہ اپنے کمپیوز انز ڈ قوی شاختی کارڈیا یا سپورٹ ( غیر کلی ہونے کی صورت میں )

ل نقل بذریعہ ڈاک ارسال کریں (اگر پہلے شدی ہو) تا کہ مپنی متعلقہ توانین کےمطابق عمل کر سکے۔

ككيور ثير ايند أي في كميش آف ياكتان في بذريد الس آراد 470 (1) / 2016 مورفد 31 من 2016 كوكمينيوں كواجلاس عام ميں شيتر بولڈرزكي رائے حاصل كرنے كے بعد سالا ندآ ڈٹ شدوا كاؤنش، العلاس عام کے نوٹس اور مینی کی دیگر معلومات بذریعہ ہی ڈی/ ڈی دی ڈی/ یوایس کی ممبران کوارسال کرنے کی اجازت دی ہے۔اس بنا پر مپنی کی سالا ندر پورٹ 2020 می ڈی میں اپنے ممبران کو بھوار ہی ہے تاہم المین سی مجری شاختی تفسیلات کے ساتھ طلب کرنے پرایک ہفتے کے اندر بلامعاوضہ ہارڈ کا فی سالاند الاؤش 2020 ارسال كرد سے كى۔

8. مينزايك 2017 كيكشن (2)132 كت كتي مجوى طورير 10% ياس ي ذياده ك حصص واران جغرافیا کی کحاظ ہے ویڈیو کانفرنس کی ورخواست کم از کم سالا نداجلاس عام کے سات ون پہلے وصول اروائين تاكه كميني اگر متعلقه جكه ويذيو كانفرنس كي مهولت بوتو اس جگه اس مبولت كا انتظام كرے كي۔ اس مہولت کو حاصل کرنے کے لئے ورخواست ممینی کے مپنی سیکرٹری کے نام مندرجہ ذیل پید پرارسال کریں۔ كىپنى سىكىرىزى،الخير گدون لىينىڭە،43 \_ ئى ،گلېرگ ١١، لا ہور \_

Secp عادل كرده Sro + 254 (1) 2018 مورد. 22 فروري 2018 كينول (يولل بیٹ ) ضابطوں 2018 کے تحت مجران ع- دونگ کے ذریعے اس حق رائے دہی کا استعال کر سکتے ہیں۔

.... بذريعه بترا ..... مل

30 جون 2020ء کوئٹم ہونے والے مالی سالاندر پورٹ مقررہ مت میں مینی کی ویب سائٹ www.litehadchemicals.com يرماب وقت يرفرانهم كروى جائيل كى-

SECP \_x كبوارك كروه آراز SRO # SRO / 470(I)/2016 مورند 31 كى 2016 كرمطابق جوك

شكل يس كنيان كى بجائك USBL DVD/CD كا الكل يس كنيادى كى ب

سالانداجلاس عام مورد 26 اكتوبر 2017 وشر منظور شده يحى ب-سالاندر يورث هف واران تك كمالي

ويديوكا نفرنس سبولت اختيار كرناجا يتيتين

NOW- e-WART Kpm 2-04-20

(انویسز)نے فروخت کے لیے پیش کی اطلاع برائے سالا نہاجلاس عا بذريعه بذا مطلح كياجاتا ب كدالخير كدون لميثل كم معنى داران كا 30وال سالاندا ولال عام مورقد 26 00 10 01 727 المعالى المارك ال اكتوبر،2020بروزير يوت مع 9:00 على بمقام رجسرو وفتر 92/3، فيزد، الدسر بل استيث مكدون امازنی ملع صوالی جیبر پختونواه مین درج ذیل امور کے انجام دی کے لیے منعقد موکا۔ 00 01 06 إلى يعلى الله المنظام المولى المنظام المولى ئۇغى زىيىن 59 1. 25/كور، 2019 كومنعقده 29 ويسالا شاجلاس عام كى كارواكى كار تقي كرنا-شنهار حواله نصبر 59/Ahlu/Ph-X/Acq واله نصبر من المراجع (كاتاك 111-342-547 من المراجع 2. 30جون، 2020 كوتم شدوسال كي كيكون كي يزال شدوسالاته مالياتي توثوار بيشول والريكرز اورآ ڈیٹرز کی رپورٹس کی وصولی بخور وخوش اورمنظوری ویا۔ محاسب كاتقرراوران كيسشايره كالغين كرنا 4. جناب چيز مين كي اجازت بيمسي ديگرام بركاروائي\_ 21 وال سالا تدجا كره اجلاس كيش ويويدن كاعلان IRST PARAMOUNT بالحكم بورة يراماؤنث الويستنسد لميناته كي جانب سے فرست علاماؤنٹ مضاربہ موردہ 80 جون2020ء تک فتم ہوئے والے سال كيليد 0.35 روي في مرفظيت يعن 3.5 فيعديش (يويد تدع كالعلان كريد ي 2020,デ102:をった شير رانسغ كم مورد 21 كور 2020 و 28 اكور 2020 مر جمول دولول الام ) يندوين ك نوش: كيني كاصع متعلى كايس 19 أكور 2020 يـ 26 أكور 2020 (بشول دونو ل دن ) بندرال فرست بجراماؤن مضارب كم مرتبطيت بولدركا 21 وال سالاندجائزه اجلال موديد 28 اكتوبر 2020 بروز بده. بوت كى - تمام ترانسفرز جو واعدو صوابط كرمطابق ممين كار يوريث وقتر الخيرماي س. 43 - في كلبرك والدمود 03:00 مكر فيرا 20 دومري مزل PECHS كيون إل بياك. PECHS شايراه تا يراي بي ش منطق بول \_ مِن 17 أكور، 2020 تك وصول بوقى دو سالاندا جلاس عام مِن دوث ك الل تصور بول كر د نظیت بولارد کوشوره و با با تا بے کے اپنے بھال بھی مجی جم کہ آئید کی ہے دھڑا رفرسٹ بیرا ماؤٹ مضار رکومظام کریں تا کہ دور یکی سرنظیش 2. COVID-19 کی موجوده صورتجال کر تحت جکومت نے ایک مقام پر توای اجتاعات کو مطل کردیا ہے۔ ك فالنفر ال المولى مومول كوكن بنايا عظم التولي الم الم المال المال المول المن (يا يوب ) لديل واقع فرس الور 40-0. حزید برآن بمکورٹرز ایڈ ایکی میٹن آف اِکتان نے 2020 کے مرکز قبر 5 ماری کردہ 17 ارج 2020ور ياكتان شاك المجي ليف كونس ريونس فير PSX/N-372 من 19 الن ياك PECHS.6. آل 75400 أن أمر 221-111-000 في من م 21-3416827 وطالع كياجا عائد 2020 ميں كمينول كومشورود يا ب كروه اليخ صف داران اور قوام كى حفاظت اور فلاح د بهرو كيا يزب تمام مرفیکیت بولدردے درخواست بے کدوہ اپنے قائل بیواد CNIC شیر دجرار میرز THK الدوى الى والناور مام اجلاسون كيك التي معول كالمنصور يتدى من ردوبدل كريل-(يايُورِف) ليولاك بي كريم إلى ي سكيور شرايغ الميني كليك المنان كي بدايت برغوركرت موع كمثل بيخ كوم كاخروريات كالعيل عادالدین جمال سمخی تیزیزی جمع بورداف دائر یکٹرز كويقين بنات يوع حصد اران كم علم جسانى تعالل كرما تدمالا شاجلاس عام كوطلب كرف كا ارادہ رکھتی ہادر اراکین سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنی حاضری کو بھی بناتے ہوئے پر اکسیو کے ارست پیراداؤنٹ مضارب میسرز پیراداؤنٹ الویسٹوٹ کی طاعر وريع اجلال شل شركت كرس עוב 2020-10-2020 مزید بر کم کمنی نے اینا بھی بنانے کے لیے انظامات کیے ہیں کہ صعدادان سیت انام شرکا آب دیڈ یوننگ کے ذریعے سالا شراجلاس عام کی کاروائی ش حصر لے سکتے ہیں۔ وہ تمام اراکین جوسالا شاجلات تاولرز لمستة عام من شركت كرنا جائي إن ان سالمان بكراينانام ، فراي غير العداد هف ، مواكل غيره اي مل ٹاولرز ہاؤس، ڈیلیوالیں اے 31-30، بلاک نمبر 1، ایڈ رئیں، اور لا گوکمپیوٹر اگر ڈ قومی شاختی کارڈ کی عل (دونوں جانب سے کالی) کے ساتھ بعنوان "رجسٹریشن نيدُرلُ بِي اربيا، كرا يي-75950 برائے سالاندا جلائی عام" کے corporate@alkhairgroup.com پر بدر یوای کیل درج ذيل نبر8 كے مطابق على كريں۔ اطلاع برائے سالانہ اجلاس عام مندرجه بالامعلوبات ميا كرنے كے بعدرجستريش كروان والداراكين كى غرورى تفنديق كے بعدائيس بذریجے فوٹس بندامطلع کیاجاتا ہے کہ ڈاورز کمیٹر کا سنتالیسوال (47) سالا نداجان عام، 27 اکتوبر 2020، پروز مثل ، 4:00 ہے شام ، مقام ڈیلیوالیس اے، 31-30، بلاک-1، فیڈرل بی ایریا، کراچی، متدرجہ ڈیل امروز کی انجام دی کیلے منعقد ہوگا۔ واقع رہے کہ اس اجلاس میں وڈیو کا نفرنسٹ کے ڈوریعے می شرکت کی كينى كى جانب سے بذريداى يل إسورة سے محفوظ كرده ويديونك مياكيا جائے گار وه لك مالاند اجلاس عام والے دان فی 9:00 بے سے اجلاس کے اختام کک وستاب رہے گا۔ صعن داران سالانه اجلان عام كياجيدا الملوب متعلق اسية حوالات اورتبرب بذريد اي ميل corporate@alkhairgroup.com پارسال کر سکے ہیں۔ ارا کین کوتر غیب دی جاتی ہے کہ دہ ویڈ لوانک یا پر اکسیز کے ذریعے اپنی صاحر پیٹنی کو بناتے ہوئے سالان 1- 124 كتوبر، 2019 ، بروز جعرات ،منعقد مون واليسال نداجلاس عام كى كارروائي كي توثيل كرنا\_ 2- عرصة مختريد 30 جون، 2020 كي ليكم يخل ك ذائر يكمرز، آذيبرز كي رپورلن كي هراه كميني كآذك شده مالیاتی گوشوارون رغوروخوض کرنااورمنظوری دیا۔ 3. مالاشا اجلاس عام مين شركت كرف اور ووث وي كاالل ايك ركن ابني جكد وومر ي كن ركن كويطور 3- آئنده سال کے لیے آڈیٹرز کا تقررادراُن کے معاوضے العین کرنا۔ یراسی اجلال عی شرکت کرتے اور ووٹ ویتے کے لیے مقرر کرسک /کرسکتی ہے۔ ووٹ ڈائی طور پر م دیگرکارروائی: بذريعه يراكن، بذريعه الارني مااواري كل صورت من فمائنده وين جاسكت بين يراكن كرمور مول 4- اجلاس كيسريراه كى اجازت كوئى ديكركارروائي عمل مين لانا\_ کیلے ضروری ہے کدوہ کمپنی کے کار بوریٹ آفس، الخیر باؤس، 43- فی گیرگ 2، لا بوریس اجلاس کے بحكم بورد وتت سے كم سے كم 48 كھنے لل وصول ہوجا كيں۔ محرفرحان عادل كراچى: 25 متبر،2020 سينرل دياد ارى مين (CDC) كارى شير ز بولدرزجو اجلاس بدايس شركت كرف اورووك ويخ گپنی سیری<sub>ٹری</sub> ك كارة باياسيورث (الرفيراليا كميورابا كميورائزة قوى شاخى كارة باياسيورث (الرفيرالي وول) اور 1- كىنى كىنتلى يىنى كى كائىن مۇرىد 20 أكتور، 2020 تا 27 أكتور، 2020 كىك بىزرىيى كى (دونول دان CDC اكا وَنَتْ فِبرِ صَرور ساتِه لا يمن \_ يراكسي كي صورت من كميدورا زوقوي شاختي كارة يا ياسيورث كي تعدیق شده کانی شکک کرنا لازی به ندگوره متعد کے لیے کارپوریٹ ممبر کے نمائندے اپنے ساتھ 2- اجلاس میں شرکت کرنے ، بولنے اور ووٹ کاحق رکھنے والا ہرمبرا پنی جگہ کینی کے کسی دوسرے ممبرکواپنی مطلوبه دستاويز ضرورلا سيب ا جان ما من حرف من من المراد المواد و في كيلية ابنا فمائنده مقر وكرسكات في المدا بالمائندة ما المدال المائندة مقر وكرسكات في المدا بالمائندة من المراد المائندة على المراد المائندة على المراد المائندة على المراد المائندة على المراد بالمراد المائندة بالمراد المراد المر 5. ممرزے درخواست بالدووا بے بیٹ ش کی جی قسم کی تید کی کی صورت میں میٹی کے شیئرز رجسٹرار کو 6. ممبرزے درخواست برکدوہ اپنے کمپیوٹرائز ڈ قوی شاختی کارڈیا یا سپورٹ (غیر کلی بونٹی صورت میں) کروناوائن (COVID-19) کی موجودہ صورت حال کی طرف سے خطرے کے پیش نظر سیکور شیز اینڈ كُلْقُل بذريعية أك ارسال كرين (أكريبط نددي مو) تاكريكيني متعلقة قوائين كے مطابق عمل كرسكے\_ ا مجھنے کمیش آف پاکستان نے بذر اید مرکز فمبر 5 بتاری 17 ارچ 2020 کمیٹی کوشیئر مولڈرز کی صحت و سلامتی کے تحفظ کے لیے وقایو کا فوزیک کے در پیدا جلاس کے انتظامات کی ہماہے کی ہے۔ 7. كيوير اين المجيئ كيفن آف باكتان في يدريد الس آزاد 470 (1) 1 2016 موفد 31 من 2016 كوكمينيون كواجلال عام بين شير بولدرزكي رائ حاصل كرنے كے بعد سالات و شده اكا ونش، اجلاس عام كوفش اوركيخواكي ديكرمعلومات بذريعين وي أوى وي وي أبي إليس في ميران كوارسال كرف کی اجازت دی ہے۔ اس بتا پر کیٹی کی سالا شریورٹ 2020 می ڈی میں اپنے تمیران کو مجھواری ہے تاہم الف) موباكل اوالس اپ: 03008205172 اورای میل: 03008205172 كمين كى بعي ممرى شاخى تفسيات كرساته طلب كرن يرايك بفت كاندر بلامعاوضه باردكا في سالات شير مولدرد كويدايت كى جاتى بى كدائ تام، CNIC نمبر، فوليو/CDC كا وَمْت نمبر، مو بالل نمبر اوراى ا كاؤنش 2020 ارسال كرد مع كى -میل آئی ڈی آئی شاخت کے لیے درج کریں کمپنی AGM کی تاریخ کوان کے ای میل ایڈریس پر لاگ ان کے کوائف بیج گی مشیر مولڈرزا ہے اسارے فون اسمبیوٹر ڈیوائس کے دریے AGM کی 8. كينيزا يك 2017 كيكن (2) 132 كرت كميني كومجوى طور ير 10% ياس يد ذياده كر حصص

کارروائی میں شریک ہوسکیں گے

اليوني ايش يرائيويث لمينڈ كوآ گاه كرس-

ا ورون سی سرید او سی کا کار در کو سیاور شرایند ایجیج نمیش آف پاکتان (SECP) کی جانب مے 26 جنوبی 2020 کو جانب کے 26

تمام تنيئر ہولڈرزے درخواست ہے کہا ہے جے میں سی بھی تبدیکی ہے ٹیئر رجٹرار،میسرز ٹی ایج کے،

داران جغرافیاتی کاظے ویڈ یو کا نفرنس کی درخواست کم از کم سالاندا جلاس عام کے سات دن بہلے وصول

كروا عي تاكم يمنى الرمتعلقة جلَّه ويد يوكا فون كي مولت بوتواس جله اس مولت كا انظام كرك كي-اس موات کوحاصل کرنے کے لئے درخواست مینی کے مینی سیکرٹری کے نام مندرجہ فی پید پرارسال کریں۔

كىپنى سىكىرىزى،الخيرگدون لمينى ئە، 43 \_ فى ،گلېرگ ١١، لا مور \_

نفيالى بحال كوهي مكن بنايا جائے كا ايباطرية وو ور دور محولت من ميل كم مراحل كاروضع كيا جانا چائے كه قيد يوں كے جيل -بادے سیرائ 16 میں بنائی جا لکے جانے کے بعد بھی مقررہ مت تک اعی محرا نیوالی اس فی دو ہزار قید اول کور کھنے کی جگہ کی جائے تا کہ اگر کو کی دوبارہ جرم کرنے کی

نوٹس(مشتر

بذر بعد اوش بدامشتم کیا جا تا ہے کہ جائیداد بر (are صدررود، بیٹاور کینف جو کہ کنفوخمنٹ بورڈ کے ریکارا ا عردا عدام الم بمد جوت بيش كري بعدازاد بي لا كى جائے كى اوركوكى عذرة الى بول ندہ وگا \_\_\_

### جماعت نم کی رجسٹریش کی تاریخ میں توسیع

راولپنڈی(اپنے شاف رپورٹرے) پنجاب بورڈز کمیٹی آف چیئر مین نے میٹرک شفنی امتحانات ک رجسٹریش داخلہ فارم جھوانے کے بعداب جماعت تم کی رجسٹریشن کی تاریخ میں توسیع کردی ہے جماعت ہم کی رجسٹریشن کی تاریخ میں پنجاب بورڈ زسیٹی آف چیئر مین ر مرسون مارت بھی ہودور می احتصاری کا نے کرتے ہوئے اب بغیر لیٹ فیس کے ماتھ 8 اکتوبر سے 22 اکتوبر تک توسیع کردی ہے قبلس ازیں بغیر لیٹ فیس کے تم جولائی ہے 21 اگست تک جیکے لیٹ فیس كى اتھ كيم تمبر الله المتمبرتك تاريخ مقررتى -

Earnest Money

#### EXECUTIVE ENGINEER ERING DIVISION, CHARSADDA

il.com, Tel & Fax # 091-9220493

#### IG E-BIDDING

المشتم بحثونمنه

khwa invites Electronic Bids from the eligible Firms s 2014 on Single Stage One Envelope procedure. The ineering Council in relevant category and code CE-09, ii. ncial Enlistment Committee.

Estimated

	(Millions)	Duty (Rs.)
Culverts, Drain at V ) District Charsadda	The second secon	es Under ADP
	10.00	218750
	10.00	218750
	8.00	178750
	14.50	308750
	10.00	218750
	8.00	178750
	10.00	218750
	7.00	158750
Carlo and a	10.00	218750
	7.450	167750
	5.00	118750

from the office of undersigned or downloaded from ipto last date of submission tenders. Bids shall be ter than 20/10/2020 up to 12:00 Noon, which will be ce of contractors or their authorized representatives

ie bids (electronically generated tender form) and re termed as non-responsive.

vith Stamp Duty in the name of Executive Engineer

n 10% below engineer estimate, the additional bid LA Notification No. KPPRA/M&E/Estt: /1-17/2019

nest Money and Additional Security of unsuccessful est bid / tender by Competent Authority.

d cutting / overwriting / disfiguring will not be

ct as per guidelines and rules framed by Provincial

KPPRA Website PHE

INF(P)3602/2

اطلاح برائے سالانہا جلاس عام

بذريعه بذا مطلع كياجاتا ب كه الخير كدون لمينذ كي تصعى داران كا 30 دال سألاف اجلاس عام مورخه 26 ا كتوبر،2020 بروزيير بونت مع 9:00 بج بمقام رجسٹر ؤ وفتر 3/92، فير 3، انڈسٹريل اسٹيٹ، گدون امازنی شلع صوالی ، خیبر پختونخواه میں درج ذیل امورے انجام وہی کے لیے منعقد ہوگا۔

1. 125 كتربر، 2019 كونتعقده 29ويس الانداجلاس عام كى كاروالى كاتوثين كرنا-

2. 30 جون، 2020 کوفتم شدہ سال کے لیے کمپنی کے پڑتال شدہ سالاند مالیاتی کوشوارے بشمول ڈائر یکٹرز اورآ دیرزی رپورس کی وصولی غوروخوش اورمنظوری دیا۔

3. محاسب كاتقر راوران كيمشاير وكالغين كرنار

4. جناب چيز من كى اجازت كى ويكرامر يركاروائي-

مین کرری

عاريخ:201 كوير،2020 زوش:

سمینی کی تصعی منتقلی کی کتابیں 19 اکتوبر 2020 ہے 26 اکتوبر 2020 (بشمول دونوں دن ) بندر ہیں گی۔ تمام ٹرانسفرز جوقواعد وضوابط کے مطابق میٹی کے کارپوریٹ دفتر اکٹیر ہاؤس، 43- ٹی ،گلبرگ2 ، لاہور میں 17 اکتوبرہ 2020 تک وصول ہوگئی۔ وہ سالانہ اجلاس عام میں ووٹ کے اہل تصور ہوں گے۔

COVID-19 كى موجود وصور شمال ك تحت م تكومت في ايك مقام يرعواى اجماعات كومعطل كرديا ب-ويال يرعام اجلاسول كيليخ المني معمول كي منصوبه بندى من ردوبدل كرير-

سيكيور ثيرايند اليجيخ كميش آف ياكستان كى بدايت برغور كرت موئ كميني اسية كوم كى ضروريات كالعيل كويفين بنات ووع صعد اران كي م يم جسماني تعالل كساته سالاندا جلاس عام كوطلب كرف كا ارادہ رکھتی مصاور اراکین سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اپنی حاضری کویٹینی بناتے ہوئے پراکسیز کے ذريع اجلال من شركت كريل-

مریدید کمین نے ایا تین بنانے کے لیے اظامات کے بی که حصد ادان سیت تمام شرکاب ویڈیولک کے دریعے سالانداجاس عام کی کاروائی می حصد لے سکتے ہیں۔ وہ تمام اراکین جوسالانداجاس عام میں شرکت کرنا چاہتے ہیں، ان ہے التاب بے کہ اینا نام، فولیونمبر، اقداد صعی، موبائل نمر، ای میل ايدريس، اورال كوكمپيور ابر و توى شاخى كار ذكي قل ( دونول جانب سے كاني ) كے ساتھ بعنوان " روستريش برائے سالا شاجلات عام" کے corporate@alkhairgroup.com پر بذریعدای میل ورج ویل نبر8 کےمطابق مل کریں۔

مندرجه بالامعلومات مهياكرنے كے بعدرجسٹريش كروائے والے اراكين كى ضرورى تعديق كے بعد انيس سین کی جانب سے بذریدای میل، مامورڈ سے محفوظ کردہ ویڈیو لک مہیا کیا جائے گا۔ وہ لک سالاند اجلاس عام والے دن مح 9000 مجھے اجلاس کے افتاح سک دستیاب رہے گا۔

تعص داران سالاند اجلاس عام كيا يجيزا المعر عدمتعلق أية سوالات اورتجرك بدريداي ميل corporate@alkhairgroup.com پراریال کے ہیں۔

اداكين كوترغيب وي جاتى بي كدوه ويد يولك يا يراكسير ك وريع ايني حاضريتيني كوبنائي موع سالاند

ا طلاس عام میں شرکت کریں۔ 3. سالا شاجلاس عام میں شرکت کرنے اور دوٹ وینے کا الل ایک دکن اپنی جگہ دومرے کسی رکن کو بطور پراکی اجلاس میں شرکت کرنے اور ووٹ وینے کے لیے مقرر کرسکتا/کرسکتی ہے۔ووٹ واتی طور پر، بدراید پراکی، بدر ایدانارنی باادارے کی صورت میں نمائندہ وید واسلتے ہیں۔ پراکی کے متوثر ہوئے کمپلے ضروری ہے کہ وہ مین کے کار بور ہے آئس، الحیر ہائس، 43- تی گلبرگ2، لا ہوز میں اجلاس کے

وتت ئے کم ہے 48 محفظ فی وصول موجا میں۔ 4. سینرل فی بیاد ارک مینی (CDC) کے ای اور دون دیے کے ای حقدار ہیں وہ شاخت کے طور پر اپنا کمپیوٹرائز ڈ تو می شاختی کارڈیا یاسپورٹ (اگر غیر مکی ہوتو)اور CDC اكا وَنف نمر ضرور ساته لا مي \_ براكى كى صورت ين كميد رائز وقوى شاخى كار في ياسبورك كى تصدیق شدہ کا بی شلک کرنا لازی ہے ذکورہ مقعد کے لیے کارپوریٹ مبر کے نمائندے اپنے ساتھ مطلوبه دستاويز ضرورلاعي-

5. ممبرزے درخواست ہے کدوہ اپنے ہے میں کی جی شم کی تبدیلی کی صورت میں کمپنی کے شیئرز رجسزار کو

ممرزے درخواست ہے کہ دوائے کہداڑا و قوی شاختی کارڈیا یاسپورٹ (غیرملکی ہونیکی صورت میں) ک فقل بذرید اک ارسال کریں (اگر پلیلے نددی ہو) تا کہ کپنی متعلقہ توانین کے مطابق عمل کر سکے۔

7. سكيور فر ايند كي مي كمي أف ياكتال في بدريد اليس آراد 10/4(1)/ 2016 مورد 31 مى . 2016 كوكينور كواجل مام شيم وللزرد كارا عاصل كرف يعد بدرالا بدأ و شده اكاونش، اجلاس عام کے وش اور سینی کی دیکر معلوات بذریعہ وی اوی وی وی وی اس فی مبران کوارسال کرتے کی اجازت دی ہے۔ اس بنا پر کینی کی سال شد پورٹ 2020 ی ڈی ٹیس اپنی ممبر ان کو کھوار ہی ہے تا ہم سمجنی میں بھی ممبر کی شاخی تفسیلات کے ساتھ طلب کرنے پر ایک بیٹے کے اعمر بلا معاوضہ بارڈ کا لی سالانہ اكاؤنش 2020 ارسال كرد سے كى۔

8. كمينيزا كيك 2017 كيكن (2)32 إلى تحت كمين كوجموى طورير 10% ياس ي زياده ك صفى داران جغرافیا کی لحاظ نے ویڈ ہو کا نفرنس ال درخواست کم از کم سالات اجلاس عام کے سات ون پہلے وصول کردا میں تاکہ کمٹنی اگر متعلقہ عبد ویڈ ہوئی خواس کی سولت ہوتو اس جگد اس سولت کا انتظام کرنے گی۔ اس سمولت کو مامس کرنے کے در قواس کی نئے کئی تاکی نکر کری کے نام مسئدرجہ ڈیل بید پر ارسال کریں۔

09,10+20

كىپى كىرى، الخيرگدون لىينىڭ، 43\_ ئى، گلبرگ 11، لا مور\_

Nawa of mar ari